

20642 - کیا گناہ اور معصیت کا اظہار کرنا کفر مخرج عن الملة ہے ؟

سوال

کیا اعلانیہ طور پر گناہ کرنا کفر ہے ، اور کیا معصیت کے فعل کی آپس میں بات چیت مثلاً فلمیں دیکھنا اور گانے سننا کے متعلق ؟

اور کیا یہ فعل صغیرہ گناہ کے حکم میں ہے یا کہ کبیرہ کے حکم میں ؟
میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سوال کو اہمیت دیں کیونکہ ہمارے بہت سے نئے مسلمان بہن اور بھائی اس مشکل سے دوچار ہوتے ہیں --

پسندیدہ جواب

الحمد لله :

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کبیرہ گناہ اور معاصی کا اعلان کرنا ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ڈبل گناہ کا درجہ رکھتا ہے ، اور بعض اوقات اس کے کرنے والے کو کفر تک بھی لے جاتا ہے جب کہ اس کے فعل پر فخر اور اس کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اعلان کرے ، اور اس حکم میں صغیرہ اور کبیرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں -

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا :

(میری ساری امت سے درگزر کر دیا گیا ہے سوائے اعلانیہ اور ظاہر کرنے والوں کے ، اور یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے کہ رات کو ایک شخص کوئی عمل کرے اور صبح کے وقت وہ یہ کہتا پھرے میں نے رات کو یہ کام کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رات بھراس کی پردہ پوشی کی تو صبح کو وہ اللہ تعالیٰ کی اس پردہ پوشی کو ختم کرتا پھرے) صحیح بخاری (5721) صحیح مسلم (2990)

شیخ ابن عثیمن رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ :

ایک تیسری قسم سرکش اور بے حیا کی ہے ، جو کہ فخر کرتے ہوئے زنی کیا باتیں کرتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ ، یہ کہتا ہے کہ اس نے اس ملک کا سفر کیا اور اس ملک کا سفر کیا اور فسق و فجور اور کئی عورتوں سے

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

زنا کیا ، اور اس طرح کی باتیں اور ان پر فخر کرتا پھرتا ہے ۔

تو ایسے شخص کے متعلق یہ ہے کہ اسے توبہ کا کہا جائے گا اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے ، کیونکہ جو زنا کرنے پر فخر کرتا ہے تو اس کی حالت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ زنا حلال سمجھتا ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ۔ تو جو زنا کو حلال سمجھے وہ کافر ہے ۔ شرح ریاض الصالحین (116 / 1)

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ معاصی کے بھی درجے ہیں اور گناہ کرنے والے کی معصیت کے وقت اور معصیت کے بعد کی حالت کے اعتبار سے گناہ میں بھی کمی اور اضافہ ہوتا ہے ، تو چھپ کر معصیت کرنے والا اعلانیہ معصیت کرنے والے کی طرح نہیں ، اور اسی طرح معصیت کرنے کے بعد نادم ہونے والا معصیت پر فخر کرنے والے کی طرح نہیں ہے ۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

اجمالی طور پر فحاشی فساد کے اعتبار سے مختلف مراتب رکھتی ہے ، تو عورتوں کے ساتھ خفیہ دوستی لگانے والا مرد اور مرد کے ساتھ خفیہ دوستی لگانے والی عورت کا شر زنا اور بدکاری کرنے والے مرد اور عورت سے کم ہے ، اور اسی طرح چوری چھپے معصیت کا ارتکاب کرنے والا اعلانیہ معصیت کرنے والے سے کم گناہ رکھتا ہے ، اور چھپا کر کرنے والا لوگوں کو معصیت کر کے خبریں بتانے سے کم گناہ رکھتا ہے ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر سے دور ہے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

(میری ساری امت سے درگزر کیا گیا ہے لیکن اعلانیہ طور پر معصیت کرنے والوں کو نہیں) اغاثۃ اللہفان (147 / 2)

اور خدن اور خدنة کا معنی عاشق اور عشق کرنے والی عورت ہے ۔

اور اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان گناہ کے بعد اپنے گناہ سے توبہ واستغفار اور ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ اس کا عزم کرے کہ وہ یہ کام دوبارہ نہیں کرے گا ، اور نہ ہی اس کے بعد اس گناہ اور معصیت پر فخر کرے گا اور نہ ہی اس کی لوگوں میں بات اور اعلان ہی کرے گا ۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(مومن شخص جب کوئی گناہ اور معصیت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے ، اگر تو وہ اس معصیت سے توبہ کرتا اور اسے چھوڑ دیتا اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے ، اور اگر وہ معصیت

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

اور زیادہ کرتا ہے تو یہ نکتے بھی زیادہ ہوجاتے ہیں حتی کہ سارہ دل بھر جاتا ہے ، اور یہی وہ ران (زنگ) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ (چڑھ گیا) ہے) -

مسند احمد (8792) سنن ترمذی (3334) شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح ترمذی میں حسن کہا ہے (2654) -

اب ایک مسئلہ باقی ہے جو کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یہ اعلانیہ معصیت ان سے ہوتی ہے جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ، اور یہ لوگ ابھی تک اسلام کے قوانین سے ناواقف اور جاہل ہیں ، تو اگر واقعتا وہ احکام شریعت سے ناواقف اور جاہل ہیں تو انہیں معذور جانا جائے گا ، لیکن یہ احکام ان علم میں لائے جانے چاہئیں -

تو آپ ان کے سامنے یہ جواب پیش کریں اور ان کی راہنمائی کرتے رہیں ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے جس پر وہ راضی ہو اسے پسند ہو -

واللہ تعالیٰ اعلم .